

ڈپازٹ اکاؤنٹس کے لیے ضروری معلومات کا گوشوارہ ¹		
الائیڈ بینک لمیٹڈ ، — برانچ، — (شہر)۔	تاریخ (۱)	مدت جولائی- دسمبر 2025
	اہم معلومات: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو غور سے پڑھیں۔ آپ اس دستاویز کو دیگر بینکوں کے پیش کردہ اکاؤنٹس سے موازنہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ موازنہ کرنے کے لیے دیگر بینکوں سے بنیادی معلومات طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔	

اکاؤنٹ کی نوعیت اور نمایاں خصوصیات: یہ معلومات درج بالا تاریخ تک درست ہیں۔ سروسز، فیس اور مارک اپ ریٹ میں ماہانہ بنیادوں پرتبدیلی کی جا سکتی ہے۔ آپ ڈیٹنڈ فیسوں /چارجز کی معلومات ہماری ویب سائٹ یا بینک کی شاخوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

روایتی													تفصیلات
Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 60 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 60 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ36 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 36 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 12 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 12 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 12 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 12 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 6 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 6 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 3 ماہ کی میچورٹی	Behtar Munaf a ٹرم ڈپازٹ 3 ماہ کی ماہانہ،	Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ 1 ماہ کی میچورٹی	
روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	کورنسی(پاکستانی روپیہ، یو ایس ڈالر ، یورو،وغیرہ) اکاؤنٹ کے لیے کم از کم بیلنس (اگر کوئی بے تورقم درج کریں)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اکاؤنٹ کے لیے اکاؤنٹ برقرار رکھنے کے لیے
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اکاؤنٹ کو برقرار رکھنے کی فیس (اگر کوئی بے تورقم درج جاتا ہے)
پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	پان	کیا اکاؤنٹ پرمٹافع ادا کیا جاتا ہے (ہاں /نہیں) قابل اطلاق شرح ٹیکس بے مشروط متوقع شرح منافع۔(%)
ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	ختم ہونے پر	منافع کی ادائیگی کی فریکوئنسی(روزانہ، ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ)
65	5.13	70.00	5.54	100	7.96	100	7.96	48.75	7.92	23.75	7.83	7.50	مثال دیں : (مذکورہ مدت میں آپ ہر 1000 روپے پر -----روپے کما سکتے ہیں)
نگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	بکنگ کے وقت PLS/ PLS بجٹ کی مروجہ شرح، جو بھی کم ہو۔	قبل از وقت/جلد رقم نکلوانے کی فیس (اگر کوئی بے تورقم/ریٹ درج کریں)

سروس چارجز
اہم نوٹ: اس اکاؤنٹ کے اہم سروس چارجز کی فہرست درج ذیل ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست [ذرائع کی وضاحت کریں – مثلاً "ہماری شاخوں ، ہماری ویب سائٹ**www.abl.com**" پر ملاحظہ کر سکتے ہیں]۔ براہ مہربانی نوٹ فرما لیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکسز کے علاوہ ہیں۔

روایتی		
سروسز	طریقہ کار	[مذکورہ بالا پیش کردہ یا استعمال کردہ تمام قسم کے اسلامی اکاؤنٹس کے لیے نیچے دیے گئے سروس چارجز کے لیے رقوم درج کریں۔ فیس نہ ہونے کی صورت میں صفر تحریر کریں۔]
		Behtar Munafa ٹرم ڈپازٹ
کیش ٹرانزیکشنز	بیرون شہر	0
	اندرون شہر	0
	دیگر بینکوں کی اے ٹی ایم سے رقم نکلوانا	0
	بینک صارفین کے لیے CDM چارجز	0
ایس ایم ایس الرئس	ایے ڈی سی /ڈیجی ٹل	0

	دیگر ٹرانزی کشنز کے لیے دیگر ٹرانزی کشنز کے لیے	
0	کلاس کی	ڈیبت کارڈز
0	پلائینم	
0	پریمیم	
0	یو پی آئی اور پے پیک کلاسک	
0	یو پی آئی اور پے پیک گولڈ	
0	بنیادی ڈیبت کارڈ	چیک بک
0	اجراء	
0	ادائیگی روکنا	

روایتی	طریقہ کار	سروسز
[مذکورہ بالا پیش کردہ یا استعمال کردہ تمام قسم کے اسلامی اکاؤنٹس کے لیے نیچے دیے گئے سروس چارجز کے لیے رقوم درج کریں۔ فیس نہ ہونے کی صورت میں صفر تحریر کریں۔]		
Behtar Munafa بہتر مونا فا ٹرم ڈپازٹ		
0	ڈبلیکیٹ	اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ
0	ایم ڈی سی/ڈیجیٹل چینلز	فنڈ ٹرانسفر
0	IBFT برانچ کاؤنٹر	
0	برانچ کاؤنٹر	
0	انٹرنیٹ بینکنگ سبسکرپشن (یکبار اور سالانہ)	ڈیجیٹل بینکنگ
0	موبائل بینکنگ سبسکرپشن (یکبار اور سالانہ)	
0	نارمل	کلیئرنگ
0	بیرون شہر	
0	اُسی دن	

آپ کے لیے اہم معلومات	
غیر دعویٰ شدہ ڈپازٹ : بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، 1962 کے سیکشن 31 کے مطابق کسی نابالغ یا حکومت یا عدالت کے نام پر کھولے جانے والے ڈپازٹس کے علاوہ تمام ڈپازٹس جو پچھلے دس سالوں کے دوران فعال نہیں ہوئے ہیں،متعلقہ بینکوں کی جانب سے قانونی دفعات کے مطابق شرائط کو پورا کرنے کے بعداسٹیٹ بینک آف پاکستان(SBP) کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ان تحویل شدہ ڈپازٹس کا دعویٰ متعلقہ بینکوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم اپنی قریبی برانچ یا ABL ہیلپ لائن/کال سینٹر سے111-225-225پر رابطہ کریں۔ اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو درج ذیل سے رابطہ کریں: بینکنگ محتسب پاکستان پانچواں فلور، شاہین کمپلیکس، ایم آر کیا بی روڈ، کراچی۔ فون نمبر: (+92 21) 38-99217334 (5 لائنیں)	غیر فعال اکاؤنٹس: اگر پچھلے ایک سال کے دوران کوئی صارف کی جانب سے آغاز شدہ لین دین (ڈیبت یا کریڈٹ) یا سرگرمی (مثلاً ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے لاگ ان) نہیں ہوئی تو آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال یا غیر عملی اکاؤنٹ بن جائے گا۔ مزید براں، ڈیبت لین دین/رقم کی واپسی کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اکاؤنٹ فعال نہ کیا جائے۔ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے، آپ کو [مختصراً بتائیں کہ اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا (ضروری دستاویزات) اور خاص طور پر بیرون ملک صارفین پر توجہ دیں] رہنمائی حاصل کرنے یا شکایت درج کروانے کے لیے درج ذیل پر رابطہ کریں : رابطہ کی معلومات الافائیڈ بینک لمیٹڈ کمپلینٹ مینجمنٹ ڈویژن

الائیڈ بینک، ہیڈ آفس، سیکنڈ فلور، 3-4 ٹیپو بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور ٹیلی فون: 35880043-042 ہیلپ لائن: 225-225-111 ای میل: complaint.management@abl.com ویب سائٹ: www.abl.com سنوائی لنک https://sunwai.sbp.org.pk/index.html		فیکس: (21 92+) 99217375 ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk	
(پراڈکٹ/سروسز کی خریداری کا انتخاب کرنے کے بعد کے مرحلہ میں استعمال کے لیے) میں یہ تسلیم کرتا /کرتی ہوں کہ میں نے ضروری معلومات کا یہ گوشوارہ وصول کر لیا ہے اور اسے سمجھ لیا ہے			
صارف کا نام:		تاریخ:	
منتخب کردہ پراڈکٹ:			
اکاؤنٹ کا اختیار:		واحد/مشترکہ/کوئی ایک یا حیات	
پتہ			
رابطہ نمبر:		ای میل ایڈریس	
صارف کے دستخط		دستخط کی تصدیق	